

Psa

Chapter 106

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 **חֲסִדּוֹ:** **חַמְד־כְּרוּ-יָאֵה** **הַזְרוּ** **לַיהוָה** **כִּי-** **טוֹב** **כִּי** **לְעוֹלָם**
اُس-کی-شفقت **بہلا** **بھلا** **کیونکہ** **خداوند-کا** **شکر-کرو** **بھلا** **وہ کیونکہ** **کرے** **کرے** **کرے**
[H5769](#) [H3068](#) [H3034](#)

ہے۔ ابدی شفقت کی اُس اور ہے، بھلا وہ کیونکہ کرو، شکر کا رب ہو! حمد کی رب

2 **זִמּוֹ** **יְמִלָּל** **גְּבוּרוֹת** **יְהוָה** **יְשׁוּמִיעַ** **כָּל-** **הַזֹּהֲלֹתוֹ:**
کون **بیان-کرے** **قدرتوں** **خداوند-کی** **سنائے** **ساری** **اُس-کی-حمد**
[H4310](#) [H1369](#) [H3068](#) [H8085](#) [H3605](#) [H8416](#)

ہے؟ سکتا کر تمجید مناسب کی اُس کون سکتا، سنا کام عظیم تمام کے رب کون

3 **אַשְׁרֵי** **שֹׁמְרֵי** **מִשְׁפָּט** **עֲשֵׂה** **צְדָקָה** **בְּכָל-** **עֵת:**
مبارک **رکھنے-والے** **انصاف** **کرنے-والا** **راستبازی** **ہر** **وقت**
[H0835](#) [H8104](#) [H4941](#) [H6666](#) [H3605](#) [H6256](#)

ہیں۔ کرتے کام راست وقت ہر جو رکھتے، قائم انصاف جو وہ ہیں مبارک

4 **זְכַרְנִי** **יְהוָה** **בְּרִצּוֹן** **עֲמִדָּה** **כְּקָרְנֵי** **בִישׁוּעָתְךָ:**
مجھے-یاد-کر **خداوند** **رضا-سے** **اپنی-قوم-کی** **مجھے-دیکھ** **اپنی-نجات-سے**
[H2142](#) [H3068](#) [H7522](#) [H3444](#)

کرمدم بھی میری وقت دیتے نجات رکھ، خیال میرا وقت کرتے مہربانی پر قوم اپنی رب، اے

5 **אֲלֹהֹת** **בְּטוֹבָת** **בְּחִירָיִךָ** **לְשֹׁמְחִים** **בְּשִׂמְחָת** **נְוִיָּה** **לְהַתְהַלֵּל** **עִם-**
دیکھنے-کو **بھلائی-میں** **تیرے-چنے-بوٹوں-کی** **خوشی-منانے-کو** **خوشی-میں** **تیری-قوم-کی** **فخر-کرنے-کو** **ساتھ**
[H7200](#) [H0972](#) [H8055](#) [H8057](#)

נְחֻלָּתְךָ:
تیری-میراث-کے
[H5159](#)

سکوں۔ کر ستائش ساتھ کے میراث تیری کر بو شریک میں خوشی کی قوم تیری اور سکوں دیکھ حالی خوش کی لوگوں ہوئے چنے تیرے میں تاکہ

6 **חֲטָאֵנוּ** **עִם-** **אֲבוֹתֵינוּ** **הָעֲוִיִּנוּ** **הַרְשָׁעָנוּ:**
ہم-نے-گناہ-کیا **ساتھ** **اپنے-باپ-دادا-کے** **ہم-نے-بدی-کی** **ہم-نے-شرارت-کی**
[H2398](#) [H0001](#) [H7561](#)

ہے۔ ہوئی سرزد بے دینی اور ناانصافی سے ہم ہے، کیا گناہ طرح کی دادا باپ اپنے نے ہم

7 **אֲבוֹתֵינוּ** **אֲבוֹתֵינוּ** **אֲבוֹתֵינוּ** **אֲבוֹתֵינוּ** **אֲבוֹתֵינוּ** **אֲבוֹתֵינוּ** **אֲבוֹתֵינוּ** **אֲבוֹתֵינוּ**
ہمارے-باپ-دادا **مصر-میں** **نہیں** **سمجھے** **تیرے-عجائبوں** **نہیں** **یاد-کیا** **کو** **بہتات** **تیری-شفقتوں-کی**
[H0001](#) [H4714](#) [H3808](#) [H6381](#) [H3808](#) [H2142](#) [H0853](#) [H7230](#)

וַיִּמְרוּ **עַל-** **יָם** **בְּיַם-** **סוּף:**
اور-وہ-باغی-ہوئے **پر** **سمندر** **پر** **سمندر-پر** **سرخ**
[H4784](#) [H3220](#) [H3220](#) [H5488](#)

پر قُلم بحر یعنی سمندر وہ بلکہ رہیں نہ یاد مہربانیاں متعدد تیری اور آئی نہ سمجھ کی معجزوں تیرے انہیں تو تھے میں مصر دادا باپ ہمارے جب

ہوئے۔ سرکش

8 וַיִּוְשְׁעוּם לְמַעַן קָמָו לְהוֹדִיעַ אֶת־גְּבוּרָתוֹ: اور-اُس-نے-بچایا کی-خاطر اپنے-نام-کی ظاہر-کرنے-کو اپنی-قدرت
[H3467](#) [H4616](#) [H8034](#) [H3045](#) [H0853](#) [H1369](#)

تھا۔ چاہتا کرنا اظہار کا قدرت اپنی وہ کیونکہ بچایا، خاطر کی نام اپنے انہیں نے اُس تو بھی

9 וַיִּנְעַר וַיִּזְעַר בְּיָמָיו סוּרָה וַיִּחַרְבּ וַיִּזְלִיחַם בְּתַהֲמוֹת כְּמִדְבָּר: اور-اُس-نے-ڈانٹا سمندر-کو سرخ اور-وہ-خشک-ہو-گیا اور-اُس-نے-لے-گیا گہرائیوں-میں صحرا-کی-طرح
[H1605](#) [H3220](#) [H5488](#) [H3212](#) [H8415](#)

سے۔ میں ریگستان طرح جس دیا گزرنے یوں سے میں گہرائیوں کی سمندر انہیں نے اُس گیا۔ بو خشک وہ تو جھڑکا کو قُلزم بحر نے اُس

10 וַיִּוְשְׁעוּם מִיָּד בָּתְּחִילָה שׁוֹנֵא וַיִּנְאֲלָם מִיָּד אֹיִב: اور-اُس-نے-بچایا ہاتھ-سے نفرت-کرنے-والے-کے اور-چھڑایا ہاتھ-سے دشمن-کے
[H3467](#) [H3027](#) [H8130](#) [H3027](#) [H0341](#) [H3027](#)

کیا۔ رہا سے ہاتھ کے دشمن کر دے عوضانہ اور چھڑایا سے ہاتھ کے والے کرنے نفرت انہیں نے اُس

11 וַיִּכְסֹּף וַיִּזְהַק מִיָּד צָרִיחַם אֶחָד מֵהֵם לֹא נֹתַר: اور-ڈھانپ-لیا پانی-نے اُن-کے-دشمنوں ایک اُن-میں-سے نہیں بچا
[H3680](#) [H4325](#) [H0259](#) [H1992](#) [H3808](#) [H3498](#)

بجانہ بھی ایک گئے۔ ڈوب میں پانی مخالف کے اُن

12 וַיִּאֱמִינוּ בְּדַבְרָיו וַיִּשְׁרֹו תְהִלָּתוֹ: اور-وہ-ایمان-لائے اُس-کے-کلام-پر اُنہوں-نے-گایا اُس-کی-حمد
[H0539](#) [H1697](#) [H7891](#) [H8416](#)

کی۔ سرائی مدح کی اُس کر لا ایمان پر فرمانوں کے اللہ نے انہوں تب

13 מְהֵרָה מִקְהָרָה וְשָׁכְחוּ מֵעֵשׂוֹי לֹא-חָזְרוּ לְעֵצָתוֹ: جلدی-سے وہ-بھول-گئے اُس-کے-کاموں نہیں وہ-انتظار-کرتے اُس-کی-صلاح-کا
[H7911](#) [H4639](#) [H3808](#) [H2442](#) [H6098](#)

تھے۔ نہ تیار لئے کے کرنے انتظار کا مرضی کی اُس وہ گئے۔ بھول کام کے اُس وہ ہی جلد لیکن

14 וַיִּתְחַאֲזוּ וַיִּתְחַאֲזוּ בְּמִדְבָּר תֵּאֵזָבָה וַיִּנְסוּ-אֵל בְּיַשְׁמֹון: اور-وہ-لالچی-ہوئے لالچ صحرا-میں اور-وہ-آزمانے-لگے خدا ویرانے-میں
[H0183](#) [H8378](#) [H5254](#) [H0410](#) [H3452](#)

آزمایا۔ کو اللہ میں بیابان وہیں نے انہوں کر آ میں لالچ شدید میں ریگستان

15 וַיִּתְּנוּ לָהֶם וַיִּתְּנוּ שְׂאֵלָתָם וַיִּשְׁלַח רִזּוֹן בְּנַפְשָׁם: اور-اُس-نے-دیا انہیں اُن-کی-مانگ اور-بھیجا لاغری اُن-کی-جانوں-میں
[H5414](#) [H1992](#) [H7596](#) [H7971](#) [H7332](#) [H5315](#)

دی۔ پھیلا میں اُن بھی وبا مہلک ساتھ ساتھ لیکن کی، پوری درخواست کی اُن نے اُس تب

16 וַיִּקְנְאוּ לְמוֹשֶׁה לְמֹשֶׁה וַיִּקְנְאוּ לְמֹשֶׁה לְמֹשֶׁה: اور-وہ-حسد-کرنے-لگے موسیٰ-سے لشکرگاہ-میں بارون-سے مقدس خداوند-کا
[H7065](#) [H4872](#) [H4264](#) [H0175](#) [H6918](#) [H3068](#)

لگے۔ کرنے حسد سے بارون امام مقدس کے رب اور موسیٰ وہ میں گاہ خیمہ

17 תְּפַתַּח-אָרֶץ וַתִּבְלַע דָּתָן וַתִּבְלַע אֶרֶץ אֶרֶץ: کھلی زمین اور-نگل-گئی داتان اور-ڈھانپ-لیا پر جماعت ابیرام-کی
[H0776](#) [H1104](#) [H1885](#) [H3680](#) [H5712](#) [H0048](#)

لیا۔ کر دفن اندر اپنے کو جتھے کے ابیرام لیا، کر بڑپ کو داتن نے اُس اور گئی، کھل زمین تب

18 **וַתִּבְעַר-אֵשׁ** اور-بھڑکی **אֶג** آگ **אֶג** کی-جماعت-میں **בְּעֻרְתָּם** شعلے-نے **לֶהֱכֶה** جلا-دیا **תִּלְהַט** شریروں-کو **רְשָׁעִים:** [H7563](#) [H3857](#) [H3852](#) [H5712](#) [H0784](#)

ہوئے۔ آتش نذر بے دین اور اٹھی، بھڑک میں جتھے کے اُن آگ

19 **יַעֲשׂוּ-עֲגֹל** انہوں-نے-بنایا **בְּחֹרֵב** حورب-میں **וַיִּשְׁתַּחֲוּוּ** اور-وہ-سجدہ-کرنے-لگے **לְמִסְכָּה:** ڈھلے-ہوئے-بت-کو [H5695](#) [H2722](#) [H7812](#)

گئے۔ بو منہ اوندھے سامنے کے اُس کر ڈھال بت کا بچھڑے میں دامن کے سینا یعنی حورب کو وہ

20 **וַיִּמְירוּ** اور-وہ-بدل-گئے **אֶת-כְּבוֹדָם** اپنا-جلال **בְּתַבְנִית** شکل-سے **שׁוֹר** بیل-کی **אֲכָל** کھانے-والے **עֵשָׂב:** گھاس [H4171](#) [H0853](#) [H3519](#) [H8403](#) [H7794](#) [H0398](#) [H6212](#)

کی۔ بوجا کی بیل والے کھانے گھاس بجائے کے دینے جلال کو اللہ نے انہوں

21 **וַיִּבְהוּ** وہ-بھول-گئے **אֱלֹהִים** خدا **מִצְרַיִם** اپنے-نجات-دہندہ-کو **עֲשָׂה** کرنے-والے **נְדָלוֹת** بڑے-کام **בְּמִצְרַיִם:** مصر-میں [H7911](#) [H0410](#) [H3467](#) [H4714](#)

تھے۔ کئے کام عظیم میں مصر نے اُسی تھا، چھڑایا انہیں نے اُسی حالانکہ گئے، بھول کو اللہ وہ

22 **נִפְלְאוֹת** عجائب **בְּאֶרֶץ** سرزمین-میں **חַם** حام-کی **נֹרְאוֹת** خوفناک-کام **עַל-יַם-סוּף:** پر **סֶמֶן** سمندر **סֹרֵךְ** سرخ [H6381](#) [H0776](#) [H2526](#) [H3372](#) [H3220](#) [H5488](#)

تھے۔ ہوئے سے ہاتھ کے اللہ سب وہ تھے آئے پیش پر قلزم بحر واقعات جلالی جو اور ہوئے میں ملک کے حام معجزے جو

23 **וַיִּאֶמֶר** اور-اُس-نے-کہا **לְהַשְׁמִיךְ** انہیں-برباد-کرنے-کو **לְדוֹלֵי** اگر-نہیں **מֹשֶׁה** موسیٰ **בְּחִירוֹ** اُس-کا-چُنا-ہوا **עֲמֵר** کھڑا-ہوتا **בְּפָרִץ** دراڑ-میں **לְפָנָיו** اُس-کے-سامنے **לְהָשִׁיב** موڑنے-کو [H0559](#) [H8045](#) [H3884](#) [H4872](#) [H0972](#) [H5975](#) [H6556](#) [H6440](#) [H7725](#)

מִהַשְׁחִית: اُس-کی-غضب **בְּרֵבָדִי-سֶע:** [H7843](#) [H2534](#)

کو اسرائیلیوں کو غضب کے اُس تاکہ گیا ہو کھڑا میں رخنے موسیٰ خادم ہوا چنا کا اُس لیکن گا۔ کروں نابود و نیست انہیں میں کہ فرمایا نے اللہ چنانچہ آیا۔ باز سے ارادے اپنے اللہ سے وجہ اس صرف روکے۔ سے مٹانے

24 **וַיִּמְאַסּוּ** اور-وہ-حقیر-جانے-لگے **בְּאֶרֶץ** سرزمین **חֲמָדָה** پسندیدہ-کو **לֹא** نہیں **הֶאֱמִינוּ** وہ-ایمان-لائے **לְדָבָרוֹ:** اُس-کے-کلام-پر [H0776](#) [H3808](#) [H0539](#) [H1697](#)

گا۔ کرے پورا وعدہ اپنا اللہ کہ تھا نہیں یقین انہیں جانا۔ حقیر کو ملک گوار خوش کے کنعان نے انہوں پھر

25 **וַיִּרְגְּזוּ** اور-وہ-بڑبڑانے-لگے **בְּאֶהְלֵיהֶם** اپنے-خیموں-میں **לֹא** نہیں **שָׁמְעוּ** وہ-سُنْتے **בְּקוֹל** آواز **יְהוָה:** خداوند-کی [H7279](#) [H0168](#) [H3808](#) [H8085](#) [H3068](#)

ہوئے۔ نہ تیار لئے کے سننے آواز کی رب اور لگے بڑبڑانے میں خیموں اپنے وہ

26 **וַיִּשָּׂא** اور-اُس-نے-اُٹھایا **יָרֹךְ** اپنا-ہاتھ **לָהֶם** اُن-کے-خلاف **לְהַפִּיל** گرانے-کو **אֹתָם** انہیں **בְּמִדְבָּר:** صحرا-میں [H5375](#) [H3027](#) [H1992](#) [H5307](#) [H0853](#)

کرے ہلاک میں ریگستان وہیں انہیں تاکہ اُٹھایا خلاف کے اُن ہاتھ اپنا نے اُس تب

27 **וְלִחְפִּיל** **זָרַעַם** **בְּנוֹיִם** **וְלִזְרוֹתָם** **בְּאֶרְצוֹת:**
 اور-گرانے-کو اُن-کی-نسل قوموں-میں اور-بکھیرنے-کو سرزمینوں-میں
[H5307](#) [H2233](#) [H2219](#) [H0776](#)

دے۔کر منتشر میں ممالک مختلف کر پھینک میں اقوام دیگر کو اولاد کی اُن اور

28 **וַיִּצְמְדוּ** **פְּעוֹר לְבַעַל** **זְבָחֵי** **יְמֹתֵיהֶם:**
 اور-وہ-مل-گئے بعل-پغور-سے اور-وہ-کھانے-لگے قربانیاں مُردوں-کی
[H6775](#) [H1187](#) [H0398](#) [H2077](#) [H4191](#)

لگے۔کھانے گوشت کا قربانیوں گئی کی پیش لئے کے مُردوں اور گئے لیٹ سے دیوتا فغور بعل وہ

29 **וַיִּכְעַסוּ** **בְּמַעַלְלֵיהֶם** **וַתִּפְרֹץ** **כָּם** **מִנִּפְחָה:**
 اور-وہ-غضبناک-کرنے-لگے اپنے-کاموں-سے اور-پھٹ-پڑی اُن-میں وبا
[H3707](#) [H4611](#) [H6555](#) [H4046](#)

گئی۔پھیل بیماری مہلک میں اُن تو دلایا طہش کو رب سے حرکتوں اپنی نے اُنہوں

30 **וַיַּעְמֹד** **בְּיַנְחָס** **וַיִּפְלֵל** **וַתַּעֲזָר** **הַמִּנְפָּחָה:**
 اور-کھڑا-بوا فینحاس اور-اُس-نے-سزا-دی اور-رُک-گئی وبا
[H5975](#) [H6372](#) [H6419](#) [H6113](#) [H4046](#)

گئی۔رُک وبا تب کی۔ عدالت کی اُن کر اُٹھ نے فینحاس لیکن

31 **וַתִּחַשֵּׁב** **לֹא** **לְצַדִּיקָה** **לְדָר** **וְדָר** **עַד** **עוֹלָם:**
 اور-شمار-بوا اُسے راستبازی-کے-طور-پر پشت در-پشت تک ہمیشہ
[H2803](#) [H6666](#) [H1755](#) [H1755](#) [H5704](#) [H5769](#)

دیا۔قرار باز راست تک ابد اور پشت در پشت اُسے نے اللہ پر بنا اِسی

32 **וַיִּקְצִיפוּ** **עָלָיו** **מִי** **מִזִּבְיָה** **וַיִּרַע** **לְמֹשֶׁה:**
 اور-وہ-غضبناک-کرنے-لگے پر پانیوں مریباہ-کے اور-برا-بوا موسیٰ-کے-لیے اُن-کی-وجہ-سے
[H7107](#) [H4325](#) [H4808](#) [H4872](#) [H5668](#)

بوا۔حال بُرا کا موسیٰ باعث کے ہی اُن دلایا۔ غصہ کو رب نے اُنہوں بھی پر چشمے کے مریبہ

33 **כִּי** **הַמָּרוֹ** **אֶת** **רוּחוֹ** **וַיִּבְטֵא** **בְּשַׁפְתָּיו:**
 کیونکہ وہ-باغی-ہوئے کے اُس-کی-روح اور-بول-اُٹھا اپنے-ہونٹوں-سے
[H4784](#) [H0853](#) [H7307](#) [H0981](#) [H8193](#)

نکلیں۔باتیں بے جا سے منہ کے اُس کہ کی پیدا تلخی اِتنی میں دل کے اُس نے اُنہوں کیونکہ

34 **לֹא** **הַשְּׂמִירוֹ** **אֶת** **הָעַמִּים** **אֲשֶׁר** **אָמַר** **יְהוָה** **לְהֵם:**
 نہیں وہ-برباد-کرتے کو قوموں جو کہا-تھا خداوند-نے اُنہیں
[H3808](#) [H8045](#) [H0853](#) [H0559](#) [H3068](#) [H1992](#)

تھا۔کہا کو کرنے یہ اُنہیں نے رب حالانکہ کیا، نہ نیست نے اُنہوں اُنہیں تھیں میں ملک قومیں دیگر جو

35 **וַיִּתְעַרְבוּ** **בְּנוֹיִם** **וַיִּלְמְדוּ** **מִמַּעֲשֵׂיהֶם:**
 اور-وہ-مل-گئے قوموں-سے اور-سیکھنے-لگے اُن-کے-کام
[H6148](#) [H3925](#) [H4639](#)

لئے۔اپنا رواج و رسم کے اُن اور گئے مل گھل میں اُن کر باندھ رشتہ سے غیر قوموں وہ بلکہ یہ صرف نہ

36 **וַיַּעֲבְדוּ** **אֶת** **עֲצָבֵיהֶם** **וַיִּהְיוּ** **לְהֵם** **לְמוֹקֵשׁ:**
 اور-وہ-پوجنے-لگے کو اُن-کے-بُتوں اور-وہ-ہو-گئے اُن-کے-لیے پھندا
[H5647](#) [H0853](#) [H6091](#) [H1961](#) [H1992](#) [H4170](#)

گئے۔بن باعث کا پھندے لئے کے اُن یہ اور گئے، لگ میں کرنے پوجا کی بُتوں کے اُن وہ

וַיִּזְבְּחוּ	אֶת-	בְּנֵיהֶם	וְאֶת-	בְּנוֹתיהֶם	לְשָׂרִים:
اور-وہ-قربان-کرنے-لگے	کو	اپنے-بیٹوں	اور-کو	اپنی-بیٹیوں	شیاطین-کو
H2076	H0853	H0853	H1323	H7700	

کترائے۔ نہ بھی سے کرنے قربان حضور کے بدروحوں کو بیٹیوں بیٹے اپنے وہ

וַיִּשְׁפְּכוּ	חֶם	נָקוּ	דָם-	בְּנֵיהֶם	וּבְנוֹתיהֶם	אֲשֶׁר	זָבְחוּ	לְעֶזְרָכִי	כְּנָעַן
اور-وہ-بہانے-لگے	خون	بے-گناہ	خون	اپنے-بیٹوں-کا	اور-بیٹیوں-کا	جو	قربان-کیں	بُتوں-کو	کنعان-کے
H8210	H1818	H1818	H1818	H1323	H1323	H2076	H6091		
וַתִּחַנַּף	הָאָרֶץ	בְּדָמִים:							
اور-ناپاک-بو-گئی	زمین	خونوں-سے							
H2610	H0776	H1818							

ہوئی۔ بے حرمتی کی ملک سے اس بہایا۔ خون معصوم کا اُن کے کر پیش حضور کے دیوتاؤں کے کنعان کو بیٹیوں بیٹے اپنے نے انہوں ہاں،

וַיִּטְמְאוּ	בְּמַעֲשֵׂיהֶם	וַיִּזְנוּ	בְּמַעֲלָלֵיהֶם:
اور-وہ-ناپاک-بو-گئے	اپنے-کاموں-سے	اور-زنا-کیا	اپنے-کاموں-سے
H4639	H2181	H4611	

ہوئے۔ بے وفا سے اللہ سے کاموں زناکارانہ اپنے اور ناپاک سے حرکتوں غلط اپنی وہ

וַיִּחַר-	אָף	יְהוָה	בְּעַמּוֹ	וַיִּתְעַב	אֶת-	נַחֲלָתוֹ:
اور-بھڑکا	غضب	خداوند-کا	اپنی-قوم-پر	اور-اُس-نے-گھن-کیا	کو	اپنی-میراث
H2734	H0639	H3068	H0853	H8581	H5159	

لگی۔ آنے گھن سے ملکیت موروثی اپنی اُسے اور ہوا، ناراض سخت سے قوم اپنی اللہ تب

וַיִּתְנֶם	בְּיַד-	גּוֹיִם	וַיִּמְשְׁלוּ	בָהֶם	שְׂנֵאֵיהֶם:
اور-اُس-نے-دے-دیا	ہاتھ-میں	قوموں-کے	اور-حکومت-کی	اُن-پر	اُن-کے-دشمنوں-نے
H5414	H3027	H4910	H8130		

لگے۔ کرنے حکومت پر اُن وہ تھے کرتے نفرت سے اُن جو اور کیا، حوالے کے قوموں دیگر اُنہیں نے اُس

וַיִּלְחָצוּם	אוֹיְבֵיהֶם	וַיִּכְנְעוּ	תַּחַת	יָדָם:
اور-ظلم-کیا	اُن-کے-دشمنوں-نے	اور-دب-گئے	نیچے	اُن-کے-ہاتھ-کے
H3905	H0341	H3665	H8478	H3027

لیا۔ بنا مطیع اپنا کو اُن کے کر ظلم پر اُن نے دشمنوں کے اُن

פְּעָמֵים	רַבּוֹת	יַצִּילֵם	וְהִמָּה	יַמְרוּ	בְּעַצְתָּם	וַיִּמְכְּרוּ	בְּעֵוֹנָם:
بار-بار	بہت	اُس-نے-بچایا	اور-وہ	باغی-ہوتے	اپنی-مرضی-سے	اور-پست-ہوتے	اپنے-گناہ-میں
H6471	H5337	H1992	H4784	H6098	H4355	H5771	

گئے۔ ڈوبتے میں قصور اپنے اور رہے تھے پر منصوبوں سرکش اپنے وہ حالانکہ رہا، چھڑاتا اُنہیں بار بار اللہ

וַיִּרְא	בְּצָר	לָהֶם	בְּשָׂמְנוֹ	אֶת-	רַנְתָּם:
اور-اُس-نے-دیکھا	تنگی-میں	اُن-کے-لیے	سُنتے-ہوئے	کو	اُن-کی-فریاد
H7200	H1992	H8085	H7440	H0853	

دیا۔ دھیان پر مصیبت کی اُن کر سن آہیں کی اُن لئے کے مدد نے اُس لیکن

וַיִּזְכֹּר	לָהֶם	בְּרִיתוֹ	וַיִּנְחָם	בְּרַב	חַסְדוֹ	חַסְדָּיו:
اور-اُس-نے-یاد-کیا	اُن-کے-لیے	اپنا-عہد	اور-پچھتایا	بہتات-کے-مطابق	اُس-کی-شفقت	اُس-کی-شفقتوں
H2142	H1992	H1285	H5162	H7230		

پچھتایا۔ باعث کے شفقت بڑی اپنی وہ اور کیا، یاد عہد اپنا ساتھ کے اُن نے اُس

46
 اور-اُس-نے-دیا
 اُنہیں
 رحم-کے-لیے
 لڑھکے
 لڑھکے
 سب
 اُن-کے-قید-کرنے-والوں-کے
 شوبہکے:
 H5414
 H0853
 H6440
 H3605
 H7617

کھایا۔ ترس پر اُن نے اُس کی گرفتار اُنہیں بھی نے جس کہ دیا ہونے نے اُس

47
 اور-اُس-نے-دیا
 اُنہیں
 رحم-کے-لیے
 لڑھکے
 لڑھکے
 سب
 اُن-کے-قید-کرنے-والوں-کے
 شوبہکے:
 H5414
 H0853
 H6440
 H3605
 H7617

47
 اور-اُس-نے-دیا
 اُنہیں
 رحم-کے-لیے
 لڑھکے
 لڑھکے
 سب
 اُن-کے-قید-کرنے-والوں-کے
 شوبہکے:
 H5414
 H0853
 H6440
 H3605
 H7617

پر کاموں تعریف قابل تیرے اور گے کریں ستائش کی نام مُقدّس تیرے ہم ہی تب کر۔ جمع کر نکال سے قوموں دیگر ہمیں بچا! ہمیں خدا، ہمارے رب اے گے۔ کریں فخر

48
 اور-اُس-نے-دیا
 اُنہیں
 رحم-کے-لیے
 لڑھکے
 لڑھکے
 سب
 اُن-کے-قید-کرنے-والوں-کے
 شوبہکے:
 H5414
 H0853
 H6440
 H3605
 H7617

48
 اور-اُس-نے-دیا
 اُنہیں
 رحم-کے-لیے
 لڑھکے
 لڑھکے
 سب
 اُن-کے-قید-کرنے-والوں-کے
 شوبہکے:
 H5414
 H0853
 H6440
 H3605
 H7617

ہو! حمد کی رب آمین! کہے، قوم تمام ہو۔ حمد کی خدا کے اسرائیل رب، تک ابد سے ازل